
اللھم صل علی محمد النبی الامی

درود شریف کے فضائل

تصنیف لطیف

مفسر اعظم پاکستان، صاحبِ تصانیفِ کثیرہ
ابوالصالح

مُفتی محمد فیض اَحمد اُویسی رَضوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

www.FaizAhmedOwaisi.com

وجہ تالیف

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُ لِلّٰہِ وَحۡدَہٗ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مِنۡ لَّا نَبِیَّ بَعۡدَہٗ وَعلٰی آلِہٖ وَاَصۡحَابِہٖ مَعَہٗ

دور حاضرہ میں ہم ہر دینی امر دنیوی فائدہ میں دیکھنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے بلکہ ہونا یوں چاہئے کہ دینی اور دنیوی ہر کام میں رضائے الٰہی مطلوب ہو تو ہمارا کام بھی بن جائے گا اور آخرت کا ثواب بھی نصیب ہو گا انشاء اللہ عزّوجل۔

فقیر کا یہ رسالہ پر مشتمل ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ درود شریف سے صرف ارادہ یہ ہو کہ اللہ کے حبیب ﷺ کی بارگاہ میں ہدیہ وتحفہ حاضر کر رہا ہوں پھر اس کریم ﷺ کے طفیل بے حد فضائل وفوائد نصیب ہونگے۔

درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے کچھ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں بیان کئے ہیں۔ مثلا امام حافظ الحدیث شمس الدین سخاوی قدس سرہٗ نے "القول البدیع" میں اور شیخ المحدثین الشاہ عبد الحق دہلوی قدس سرہٗ نے "جذب القلوب" میں لکھے ہیں۔ اُن میں سے چند سپرد قلم کئے جاتے ہیں تاکہ احباب کا شوق وذوق زیادہ ہو اور اس لازوال دولت سے اپنی اپنی جھولیاں بھر لیں۔

مدینے کا بھکاری

الفقیر القادری ابو الصالح محمد فیض احمد اُویسی رضوی غفرلہ

بہاولپور، پاکستان

۲۳ ذیقعدہ ۱۴۲۷ھ

درود شریف کے فضائل

باب ۱

۱)حبیب خدا ﷺ پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالی درود بھیجتا ہے۔ ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم دس۔

۲)درود پاک پڑھنے والے کے لئے رب تعالی کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔

۳)جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اُس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔

۴) درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔

۵)درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔

۶) درود پاک اپنے پڑھنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔

۷) درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔

۸)درود پاک پڑھنے والے کو ایک قیراط (چار جو کے دانوں کے برابر وزن) ثواب ملتا ہے۔

۹)درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے۔

۱۰)جو درود پاک کو ہی وظیفہ بنالے اُس کے دنیا اور آخرت کے سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔

۱۱)درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔

۱۲)درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں (ڈر و خوف) سے نجات پاتا ہے۔

۱۳) شفیع المذنبین ﷺ درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔

۱۴)درود پاک پڑھنے والے کے لئے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔

۱۵)درود پاک پڑھنے والے کے لئے اللہ تعالی کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔

۱۶)اللہ تعالی کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔

۱۷)اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے۔

۱۸)لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔

۱۹)درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الٰہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔

۲۰)درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گا۔

۲۱)درود پاک پڑھنے والا جب حوض کوثر پر جائے گا تو اس پر خصوصی عنایت ہو گی۔

۲۲)درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہو گا۔

۲۳)پُل صراط سے نہایت آسانی سے اور تیزی سے گزر جائے گا۔

۲۴)پُل صراط پر اُسے نور عطا ہو گا۔

۲۵)درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔

۲۶)درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہونگی۔

۲۷)درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔

۲۸)درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔

۲۹)درود پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے۔

۳۰)درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔

۳۱)درود پاک تنگدستی کو دور کرتا ہے۔

۳۲)درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں میں حضور ﷺ کے زیادہ قریب ہو گا۔

۳۳)درود شریف اپنے پڑھنے والے کو اور اُسکی اولاد کو اور اُس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔

۳۴)درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اُسے بھی نفع دیتا ہے۔

۳۵)درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا اور اُسکے حبیب ﷺ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔

۳۶)درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔

۳۷)درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے۔

۳۸) درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔

۳۹) درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔

۴۰) سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو رحمۃ اللعالمین ﷺ کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ [1] (القول البدیع، ص۱۰۱)

باب ۲

مندرجہ ذیل فوائد امام المحدثین حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی قدس سرہٗ نے بیان فرمائیں۔

۴۱) ایک بار درود پاک پڑھنے سے دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں اور دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

۴۲) درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔

۴۳) درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور ﷺ کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔

۴۴) درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقا دو جہاں ﷺ کے پاس پہنچ جائے گا۔

۴۵) درود پاک پڑھنے والے کے سارے کاموں کے لئے قیامت کے دن حضور ﷺ متولی (ذمہ دار) ہو جائینگے۔

۴۶) درود پاک پڑھنے سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔

۴۷) درود پاک پڑھنے والے کو جاں کنی (وقتِ نزع) میں آسانی ہوتی ہے۔

۴۸) جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔

۴۹) درود پاک پڑھنے سے سید الانبیاء حبیب خدا ﷺ کی محبت بڑھتی ہے۔

۵۰) رسول اللہ ﷺ خود درود پاک پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔

۵۱) قیامت کے دن سید دو عالم نور مجسم ﷺ درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ فرمائینگے۔

۵۲) فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔

۵۳) فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود شریف کو سونے کی قلموں سے چاندی کے ورقوں پر لکھتے ہیں۔

---

[1] (القول البدیع فی صلاۃ علی الحبیب الشفیع، الباب الثانی: فی ثواب الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 109/1، دار الریان بالتراث)

۵۴)درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے دربار رسالت میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں-"یارسول اللہ ﷺ"!فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔

۵۵)درود پاک پڑھنے والے کا گناہ تین دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ (جذب القلوب، ص۲۵۳)

بزرگان دین کے ارشادات مبارکہ سے چند فوائد فقیر عرض کرتا ہے۔

۵۶)درود پاک پڑھنے والے کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں۔

۵۷)درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتیں۔

۵۸)درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہوتی جاتی ہے۔

۵۹)درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیائے کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔

۶۰) قانون قدرت ہے کہ جو اس جہاں میں ہنستا ہے وہ اُس جہاں میں روئے گا اور جو یہاں روتا ہے وہ وہاں خوشیاں منائے گا۔ جو یہاں عیش کرتا ہے وہاں مصیبتوں میں پھنس جائے گا لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لئے یہاں بھی عیش وہاں بھی عیش یہاں بھی خوشیاں مناتا ہے اور وہاں بھی خوشیاں منائے گا۔

۶۱)درود پاک ساری نفل عبادتوں سے افضل ہے۔

۶۲)درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔

۶۳)درود پاک ہر خیر کا جالب(اپنی طرف کھینچنے والا)اور ہر شر کا دافع ہے۔

۶۴)درود پاک فتوحات کی چابی ہے۔

۶۵)درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں ہے۔

۶۶)درود پاک جنت کا راستہ ہے۔

۶۷)درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔

۶۸)درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

۶۹)درود پاک کی کثرت کرنا اہلسنت وجماعت کی علامت ہے۔

باب نمبر ۳

مختلف علماء کرام کے بیان کردہ فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔

۷۰) درود و سلام پڑھنے سے اللہ کریم کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔

۷۱) درود و سلام پڑھنے میں اللہ تعالٰی کی موافقت ہوتی ہے۔

۷۲) درود و سلام پڑھنے میں فرشتوں کی موافقت ہے۔

۷۳) درود شریف پڑھنے والے کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

۷۴) جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ کریم اس پر دس بار صلوۃ بھیجتا ہے۔

۷۵) جمعرات اور جمعہ کو فرشتے درود شریف چاندی کے صحیفوں میں سونے کے قلم سے لکھتے ہیں۔

۷۶) درود و سلام پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ (2) (کنز ا ص ۳۵۳)

۷۷) اللہ کریم درود شریف پڑھنے والے کی دس نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ (ج ۲۹)

۷۸) اس کے دس درجے بلند کر دیتا ہے۔ (ج ۲۹)

۷۹) اور دس گناہ مٹا دیتا ہے۔ (3) (ج ۲۹)

۸۰) اور دس بار درود بھیجتا ہے۔ (4) (ترمذی اول، ص ۱۵۷، ج ۲۹)

۸۱) اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب ﷺ جو مسلمان آپ ﷺ پر ایک بار درود شریف بھیجے میں اور میرے فرشتے اس پر دس بار درود بھیجتے ہیں۔

۸۲) جمعہ کے روز کثرت سے درود شریف پڑھنے والا نبی کریم ﷺ سے قریب ہو گا۔

۸۳) جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے والے کی سو حاجتیں پوری ہوتی ہیں ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی۔

---

[2] (سبل الهدى والرشاد، ذكر نومهم عن الصلاة حين انصرفوا من خيبر وما ظهر في ذلك الطريق من الآيات، 150/5، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1414 هـ 1993 م)

[3] (سنن النسائي، كتاب السهو، باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 50/3، الحديث: 1297، مكتب المطبوعات الإسلامية، سنة النشر: 1414هـ / 1994م)

[4] (سنن الترمذي، أبواب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 356/2، الحديث: 485، دار الكتب العلمية)

۸۴)جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ عزوجل اس پر صلوٰۃ بھیجتا ہے اور جو نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حضور میں سلام عرض کرتا ہے اللہ کریم اس پر سلام کہتا ہے۔ (ص۶۱)

۸۵)درود و سلام پڑھنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔

۸۶) کثرت سے درود و سلام پڑھنا بندے کو قرب نبی اکرم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔

۸۷)بندے کے دنیاوی اور آخرت کے اہم معاملات میں درود و سلام کفایت کرتا ہے۔ (5) (کنزاول ص۳۵۳)

۸۸)تنگ دست کے لئے درود و سلام صدقے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ (جواہر۴ ص۱۵۵)

۸۹)درود و سلام پڑھنے والا پاک ہو جاتا ہے۔ (ص۵۸)

۹۰)صلوٰۃ و سلام پڑھنے والے کو فوت ہونے سے پہلے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔

۹۱)بکثرت درود و سلام پڑھنا قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ (ص۸۴)

۹۲)درود و سلام پڑھنے والے پر نبی اکرم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صلوٰۃ و سلام بھیجتے ہیں۔

۹۳)درود و سلام سے مجلس مزین ہو جاتی ہیں۔ (ص۶۷)

۹۴)محتاجی دور ہو جاتی ہے۔

۹۶)بخل مٹ جاتا ہے اور بدبختی دور ہو جاتی ہے۔

۹۷)جو شخص ہر روز پچاس بار درود شریف پڑھتا رہا کرے قیامت کے دن فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے۔

۹۸)درود شریف پڑھنے والا جنت کو سیدھی راہ چلا جاتا ہے۔

۹۹)درود و سلام پل صراط پر بہت زیادہ نور ملنے کا ذریعہ ہے۔

۱۰۰)اللہ کریم درود خواں کی اچھی صفت آسمان اور زمین والوں میں بیان کرتا ہے۔

۱۰۱)درود خواں کے دل میں رسول اکرم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی محبت اور عشق زیادہ ہو جاتا ہے۔

---

[5] (كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، كتاب الأذكار/قسم الأقوال، الباب السادس: في الصلاة عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام، 504/1، الحديث: 2230، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة الخامسة، 1401ھ/1981م)

۱۰۲)درود و سلام پڑھنے والا نبی کریم ﷺ کا محبوب ہو جاتا ہے۔

۱۰۳)درود و سلام پڑھنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے اور ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔

۱۰۴)درود و سلام پڑھنے والے کا نام اور اُس کے باپ کا نام نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے۔

۱۰۵)صلوٰۃ و سلام پڑھنے والا پل صراط پر ثابت قدم رہے گا۔

۱۰۶)درود شریف پڑھنے سے نبی کریم ﷺ کے حقوق میں سے کچھ حق ادا ہو جاتا ہے۔

۱۰۷)نبی کریم ﷺ کی بعثت اور تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے صلوٰۃ و سلام پڑھنے سے اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت کا قدرے شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔

۱۰۸)جس مجلس میں درود و سلام پڑھا جائے اس مجلس والوں پر قیامت کے روز کوئی حسرت نہیں ہو گی۔

۱۰۹)صلوٰۃ و سلام پڑھنے والے کو دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔

۱۱۰)اس کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ جتنا ثواب لکھا جاتا ہے۔

۱۱۱)رسول اکرم ﷺ قیامت کے روز اس کی گواہی دیں گے۔

۱۱۲)دس بار درود پڑھنے والے سے اللہ کریم راضی ہو گا۔

۱۱۳)اللہ کریم کے عذاب سے امان ہو گا۔

۱۱۴)بکثرت درود شریف پڑھنے والے کو عرش الٰہی کا سایہ نصیب ہو گا۔

۱۱۵)حشر میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گا۔

۱۱۶)حوض کوثر پر جانا نصیب ہو گا۔

۱۱۷)پل صراط پر سے چمکنے والی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔

۱۱۸)پیاس سے امن میں ہو گا۔

۱۱۹)موت سے پہلے اپنا جنت والا گھر دیکھ لے گا۔

۱۲۰)درود و سلام کا ثواب بیس غزوات (جہادوں) کے ثواب سے زیادہ ہے۔

۱۲۱)درود شریف کی برکت سے مال بڑھ جاتا ہے۔

۱۲۲)درود و سلام عبادت ہے اور اللہ کریم کے نزدیک تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔

۱۲۳)درود و سلام پڑھنا اہلسنت کی نشانی ہے۔

۱۲۴)اس سے مجلس معطر ہو جاتی ہے۔

۱۲۵)بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں۔

۱۲۶)درود شریف پڑھنے والا خود بھی اور اس کی اولاد بھی اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔

۱۲۷)اس سے قرب الٰہی حاصل ہوتا ہے۔

۱۲۸)درود و سلام پڑھنے والے کے لئے قبر نور ہو جاتی ہے۔

۱۲۹)حشر میں درود خواں کے لئے نور ہو گا۔

۱۳۰)دشمنوں پر فتح ملتی ہے۔

۱۳۱)اس سے تمام مومن محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور منافق جلتے رہتے ہیں۔

۱۳۲)نبی کریم ﷺ کی زیارت خواب میں نصیب ہوتی ہے۔

۱۳۳)کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو رسول کریم ﷺ کی زیارت بیداری میں ہونے لگتی ہے۔

۱۳۴)درود خواں کی ذات، عمل، عمر اور اس کی بھلائیوں کے اسباب میں برکت ہوتی ہے۔

۱۳۵)صلوٰۃ و سلام پڑھنے والے کی شفاعت نبی اکرم ﷺ ضرور فرمائیں گے۔

۱۳۶)صبح و شام جو شخص دس دس بار ہر روز درود شریف پڑھا کرے گا وہ نبی کریم ﷺ کی شفاعت پائے گا۔

۱۳۷)جو شخص سو بار درود و سلام پڑھے اللہ کریم اس کی پیشانی پر نفاق سے پاک ہونا اور دوزخ سے بری لکھ دیتا ہے۔

۱۳۸)جو مومن سو بار درود و سلام پڑھے اللہ کریم اس کو سو شہیدوں کے ساتھ جنت میں جگہ دے گا۔

۱۳۹)جو ایک بار درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر ستر بار صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔

۱۴۰)درود و سلام پڑھنے والے کے لئے دو فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے ان دو فرشتوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔

۱۴۱) درود شریف کی مجلس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھاجاتی ہے اور جو گناہ گار بھولا بھٹکا اس مجلس میں تماش بینی کے طور پر شامل ہو جائے وہ بھی محروم نہیں رہتا۔

۱۴۲) نبی اکرم ﷺ سلام کا جواب دیتے ہیں۔

۱۴۳) ایک بار درود و سلام پڑھنے والے کا درود و سلام قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔

۱۴۴) نبی اکرم ﷺ پر جب اُمتی سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس بار سلام ارشاد فرماتا ہے۔

۱۴۵) ایک بار درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے دس دس بار صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔

۱۴۶) پانی آگ کو بجھا دیتا ہے نبی کریم ﷺ پر درود و سلام پڑھنا گناہوں کو اس سے زیادہ مٹا دیتا ہے اور آپ پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنا گردن آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔

۱۴۷) نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس نے کتاب میں میرے نام کے ساتھ درود شریف لکھا فرشتے اس کے لئے بخشش مانگتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔

۱۴۸) نماز میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو نماز کامل نہیں ہوتی۔

۱۴۹) جو شخص جمعہ کے روز نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اُٹھنے سے پہلے مندرجہ ذیل درود و سلام اَسیّ بار پڑھے اس کے اَسیّ سال کے گناہ بخشے جائیں اور اس کے لئے اَسی سال کی عبادت لکھی جائے۔

۱۵۰) اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلِّمْ تَسْلِیْماً اس درود شریف کو بکثرت پڑھنے سے رسول ﷺ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔

مدینے کا بھکاری

الفقیر القادری ابوالصالح **محمد فیض احمد اُویسی رضوی** غفرلہ ‘

۲۳ ذیقعد ۱۴۲۷؁ھ